

رسک ڈسکلوزر دستاویز

یہ دستاویز ہر اُس ممکنہ کلائنٹ کو لازمی طور پر پڑھنی چاہیے جو کموڈیٹی فیوچر ٹریڈنگ میں داخل ہونا چاہتا ہو، اور اسے کے قواعد و ضوابط کے ساتھ ملا کر پڑھا جانا چاہیے۔ ** (NCEL) نیشنل کموڈیٹی ایکسچینج لمیٹڈ

نے اس ٹریڈنگ سیگمنٹ میں شرکت کی افادیت یا اس رسک ڈسکلوزر دستاویز کی مکمل یا درست ہونے کی تصدیق نہیں کی NCEL ہے۔ یہ مختصر بیان ٹریڈنگ سے متعلق تمام خطرات اور دیگر اہم پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتا۔

خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے، آپ کو ایسے لین دین میں صرف اسی صورت داخل ہونا چاہیے جب آپ فیوچر کنٹریکٹس (اور ان سے وابستہ معاہداتی تعلقات) کی نوعیت اور اپنے رسک کی حد کو مکمل طور پر سمجھتے ہوں۔ کموڈیٹی فیوچر کنٹریکٹس میں ٹریڈنگ کے نتیجے میں نقصان کا خطرہ خاصا زیادہ ہو سکتا ہے۔

آپ کو اپنی ٹریڈنگ کا فیصلہ اپنے تجربے، مقاصد، مالی وسائل اور دیگر متعلقہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ فیوچر ٹریڈنگ کے لیے نہ صرف مناسب مالی وسائل بلکہ مالی اور جذباتی برداشت بھی ضروری ہے۔

فیوچر سیگمنٹ میں کسی بھی نقصان یا نتائج کی صورت میں، اس کا مکمل ذمہ دار کلائنٹ خود ہوگا اور ایکسچینج اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ کسی بھی کلائنٹ کو یہ مؤقف اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ اسے مناسب رسک ڈسکلوزر فراہم نہیں کی گئی یا بروکر نے مکمل خطرات کی وضاحت نہیں کی۔

تمام نتائج کی ذمہ داری مکمل طور پر کلائنٹ پر عائد ہوگی اور اس بنیاد پر کسی بھی معاہدے کو منسوخ نہیں کیا جاسکے گا۔

فیوچر کنٹریکٹس میں ٹریڈنگ سے متعلق خطرات

کا اثر (Gearing) یا گیئرنگ (Leverage) لیوریج

مارجن کی رقم کموڈیٹی فیوچر کنٹریکٹ کی مجموعی قدر کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، اس لیے یہ لین دین ** لیوریجڈ ** یا ** گیئرڈ ** کہلاتے ہیں

کموڈیٹی فیوچر ٹریڈنگ، جو نسبتاً کم مارجن کے ساتھ کی جاتی ہے، اصل سرمایہ کاری کے مقابلے میں زیادہ منافع یا زیادہ نقصان کا امکان رکھتی ہے۔ تاہم، فیوچر ٹریڈنگ میں خطرے کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے۔

لہذا، کموڈیٹی فیوچر کنٹریکٹس میں ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے درج ذیل نکات کو مکمل طور پر سمجھنا ضروری ہے اور اپنی ذاتی صورتحال، مالی وسائل وغیرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے احتیاط سے ٹریڈ کرنا چاہیے۔

اگر قیمتیں آپ کے خلاف حرکت کریں تو آپ قلیل مدت میں اپنی پوری یا جزوی مارجن رقم کھو سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں نقصان اصل مارجن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔

I.

کموڈیٹی فیوچر ٹریڈنگ میں تمام پوزیشنز کی **روزانہ بنیاد پر سیٹلمنٹ** کی جاتی ہے۔ ہر دن کھلی پوزیشنز کو سیٹلمنٹ قیمت کے مطابق **مارک ٹو مارکیٹ** کیا جاتا ہے۔

نقصان کی رقم جمع کروانا (Notional) اگر سیٹلمنٹ قیمت آپ کے خلاف ہو تو آپ کو اس کے نتیجے میں ہونے والے فرضی ہوگی۔ یہ مارجن مقررہ وقت کے اندر، عموماً اگلے دن ٹریڈنگ شروع ہونے سے پہلے، ادا کرنا لازم ہوگا۔

II.

اگر آپ مقررہ وقت تک مارک ٹو مارکیٹ نقصان یا اضافی مارجن جمع نہ کرا سکیں، یا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی واجب الادا رقم پیدا ہو جائے، تو بروکر بغیر کسی مزید اطلاع کے، مارجن کو مطلوبہ سطح پر لانے کے لیے آپ کی جزوی یا مکمل پوزیشن کو بند کر سکتا ہے۔ (Liquidate)

ایسی صورت میں، ہونے والے تمام نقصانات کی ذمہ داری کلائنٹ پر ہوگی۔

III.

کچھ مارکیٹ حالات میں سرمایہ کار کے لیے لین دین کرنا مشکل یا ناممکن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب مارکیٹ میں لیکویڈیٹی نہ ہو (یعنی خرید و فروخت کی مناسب پیشکش موجود نہ ہو) یا قیمت کی حد، سرکٹ بریکر یا ٹریڈنگ کی معطلی کے باعث۔

IV.

مارکیٹ کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جیسے مارجن ریٹ میں تبدیلی، کیش مارجن میں اضافہ وغیرہ۔

یہ اقدامات موجودہ کھلی پوزیشنز پر بھی لاگو ہو سکتے ہیں، جس کی صورت میں آپ کو اضافی مارجن جمع کروانا یا اپنی پوزیشن کم کرنا پڑ سکتی ہے۔

V.

آپ کو چاہیے کہ اپنے بروکر سے ان تمام کموڈیٹی فیوچر کنٹریکٹس کی مکمل تفصیلات حاصل کریں جن میں آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، بشمول کنٹریکٹ کی شرائط اور اس سے وابستہ ذمہ داریاں۔

اگر آپ ضروری سمجھیں تو یہ بھی یقینی بنائیں کہ بروکر آپ کی واضح تحریری اجازت کے بغیر کوئی پوزیشن نہ لے۔

رسک کم کرنے والے آرڈرز یا حکمت عملیاں

کچھ مخصوص آرڈرز (مثلاً اسٹاپ لاس یا اسٹاپ لمٹ آرڈرز) جو نقصان کو ایک مخصوص حد تک محدود کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، بعض مارکیٹ حالات میں مؤثر ثابت نہیں ہوتے کیونکہ ان حالات میں ایسے آرڈرز پر عملدرآمد ممکن نہیں ہوتا۔

اسی طرح، مختلف پوزیشنز پر مشتمل حکمت عملیاں (جیسے اسپریڈ پوزیشنز) بھی اتنی ہی خطرناک ہو سکتی ہیں جتنی سادہ لانگ یا شارٹ پوزیشنز۔

ٹریڈنگ کی معطلی یا پابندی اور قیمتوں کا تعلق

مارکیٹ کے حالات (جیسے لیکویڈیٹی کی کمی) یا بعض مارکیٹس کے قواعد (مثلاً قیمت کی حد یا سرکٹ بریکر کی وجہ سے کسی کنٹریکٹ یا کنٹریکٹ مہینے میں ٹریڈنگ کی معطلی) نقصان کے خطرے میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں پوزیشن بند یا آف سیٹ کرنا ممکن نہیں رہتا۔

جمع شدہ نقد رقم اور اثاثے

آپ کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جمع شدہ رقم یا دیگر اثاثوں کو کس قسم کا تحفظ حاصل ہے، خاص طور پر کسی ادارے کی دیوالیہ پن یا ناکامی کی صورت میں۔

آپ کی رقم یا اثاثوں کی واپسی کا انحصار متعلقہ قوانین اور مقامی ضوابط پر ہو سکتا ہے۔ بعض دائرہ اختیار میں، مخصوص طور پر قابل شناخت اثاثے بھی کمی کی صورت میں نقد رقم کی طرح تناسب کے ساتھ تقسیم کیے جاتے ہیں۔

کے ذریعے حل کیا (Arbitration) بروکر کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں، معاملہ ایکسچینج کے قواعد کے مطابق ثالثی جائے گا۔

کمیشن اور دیگر چارجز

ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے، آپ کو تمام کمیشن، فیس اور دیگر چارجز کی مکمل وضاحت حاصل کرنی چاہیے جن کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔

یہ اخراجات آپ کے خالص منافع کو کم کر سکتے ہیں یا آپ کے نقصان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

ٹریڈنگ سہولیات

ایکسچینج الیکٹرانک ٹریڈنگ سہولیات فراہم کرتی ہے جو کمپیوٹر بیسڈ سسٹمز پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسے آرڈر کی ترسیل، عملدرآمد، میچنگ، رجسٹریشن اور کلیئرنگ۔

دیگر تمام سسٹمز کی طرح، یہ سہولیات بھی عارضی خرابی یا ناکامی کا شکار ہو سکتی ہیں۔

كچھ نقصانات كى وصولى آپ كے سسٹم فراہم كنندہ، ماركيٹ، كليئرنگ ہاؤس يا بروكر كى جانب سے مقرر كردہ ذمہ داری كى حد كے تابع ہو سكتى ہے، جو مختلف ہو سكتى ہے۔ اس بارے ميں مكمل تفصيلات كے ليے اپنے بروكر سے رجوع كريں۔

يہ دستاویز فيوچر ماركيٹ ميں ٹريڈنگ سے وابستہ تمام خطرات اور اہم پہلوؤں كا احاطہ نہيں كرتى۔

لہذا، كلانٹ كو چاہیے كہ فيوچر ٹريڈنگ ميں شامل ہونے سے پہلے اس كا بغور مطالعہ كرے۔

ميں اس بات كى تصديق كرتا/كرتى ہوں كہ ميں نے يہ رسك ڈسكلوژر اسٹیٹمنٹ وصول كر لى ہے اور اسے مكمل طور پر سمجھ ليا ہے۔

كسٹمر كے دستخط

(اگر كارپوريٹ يا مجاز دستخط كنندہ ہو تو كمپنى كى مہر كے ساتھ تصديق كى جائے)

تاریخ: ** دن / مہینہ / سال **